

نسلی مساوات کو فروغ دینے کے لئے موجودہ اور منصوبہ بند اقدامات

محکمہ برائے انصاف (بشمول سیکرٹری برائے شعبہ انصاف)

قانون کا دستور ہماری جمہوریت کی بنیادی قدر و قیمت ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی مالیاتی مرکز کی حیثیت سے ہانگ کانگ کی کامیابی کا سنگ بنیاد بھی ہے۔ محکمہ برائے انصاف ہمارے قانونی نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ محکمہ سرکاری دفاتر اور دوسرے محکموں کو قانونی مشورے فراہم کرتا ہے، قانونی کارروائی میں حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، سرکاری قوانین کا مسودہ تیار کرتا ہے، استغاثہ کے فیصلے کرتا ہے، اور قانون کے دستور کو فروغ دیتا ہے۔ قانونی خدمات اور تنازعات کے حل کے لئے علاقائی مرکز کے طور پر ہانگ کانگ کے مقام کو مستحکم کرنا محکمہ کے اہم سیاسی اہداف میں سے ایک ہے۔

متعلقہ خدمات

- عوامی ممبران ہمارے محکمہ سے انکوائری ہاٹ لائن، ای میل، فیکس اور پوسٹ کے ذریعہ عمومی پوچھ تاجھ / تبصرے کر سکتے ہیں۔
- عوام اور قانونی پیشہ ور ممبران سول ڈویژن اور پراسیکیوشن ڈویژن کے زیر انتظام معاملات پر عدالت سے متعلق دستاویزات اور دیگر خط و کتابت متعلقہ فرنٹ ڈیسک کو جمع یا پیش کر سکتے ہیں۔

موجود اقدامات

- نسل کے تعلق سے ہماری خدمات غیر جانبدار ہیں، اور چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہماری خدمات دستیاب ہیں۔ اگر

ضروری اور مناسب ہو تو غیر ملکی زبان (زبانیں) میں موصولہ مواصلات کے تحریری جوابات کے لئے ترجمہ خدمت فراہم کی جائیں گی۔

مستقبل کے کام کا تخمینہ کاری

- ہماری خدمات کا وقتا فوقتا جائزہ لیا جائے گا اور ضرورت کے مطابق بہتر بنایا جائے گا، تاکہ مختلف نسلوں کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔
- متنوع نسل کے لوگوں کی خدمات کے تعلق سے ڈیٹا اور اعدادوشمار (غیر ذاتی ڈیٹا) اکٹھا کئے جائیں گے تاکہ ان کی دیگر خدمات کی ضرورت کا تشخیص ہو سکے۔

مزید اقدامات اٹھائے گئے / اٹھائے جائیں گے

- ضرورت پڑنے پر مرکز برائے ہم آہنگی اور نسلی اقلیتی آبادی کی فروغ (CHEER) کے توسط سے ترجمانی خدمات کا اہتمام کیا جائے گا۔ CHEER آٹھ زبانوں جیسے بھاسہ انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی، اردو، تگالگ، تھائی اور ویتنامی میں ٹیلیفونک ترجمانی خدمات پیش کرتا ہے۔
- ہمارے عملے کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ خدمت کی فراہمی میں نسلی مساوات کے بارے میں آگاہی اور ان کی حساسیت کو فروغ دے سکیں۔ عملے خدمت صارفین کے ساتھ موثر کارکردگی کے لئے درکار مہارت اور تکنیک سے آراستہ ہوں گے۔

نسلی مساوات کو فروغ دینے کے لئے موجودہ اور اٹھائے گئے منصوبہ بیند اقدامات کے سلسلے میں دریافت کرنے کے لئے برائے کرم مندرجہ ذیل مسٹر Tommy SETO، سینئر ایکزیکیوٹو آفیسر (ایڈمنسٹریشن اور اسٹاف ریلیشن) سے رابطہ کریں۔

ٹیلیفون نمبر : 3702 4100

فیکس نمبر : 3702 0118

ای میل : ad@doj.gov.hk

محکمہ برائے انصاف
جون 2025